



نووو نارڈسک

ریسپانس پروگرام

پروگرام کی معلومات

نووو نارڈسک ریسپانس پروگرام (www.nnrp.ca) کینیڈا آنے والے ان نووارد تارکین وطن اور پناہ گزینوں کے لیے بے جنہیں دوا کے بیمہ تک رسائی نہیں ہے اور جن کے پاس نووو نارڈسک کے اپنے انسولینز اور سوئیوں کا متحمل ہونے کے مالی ذرائع نہیں ہیں۔

پروگرام کی تفصیلات

نووو نارڈسک ریسپانس پروگرام مریض کا نووو نارڈسک ریسپانس پروگرام کا بینیفٹ کارڈ فعال ہونے کی تاریخ سے 120 دنوں تک کے لیے نووو نارڈسک کی چنیدہ انسولین (انسولینز) اور سوئیاں فراہم کرتا ہے۔ یہ پروگرام مریض کے لیے نجی / تکملاتی دوا کے بیمے کے حصول یا عوامی دوا پروگرام کے لیے درخواست دینے کے دوران **عارضی** تعاون فراہم کرنے کے ارادے سے ہے۔

اگر نووو نارڈسک ریسپانس پروگرام فعال ہونے کے دن سے 120 دنوں کے اندر نجی / تکملاتی یا عوامی دوا کا بیمہ حاصل کر لیا جاتا ہے تو، نووو نارڈسک ریسپانس پروگرام کے فائدے اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔

پروگرام کے بینیفٹ کارڈز

نووو نارڈسک ریسپانس پروگرام کے بینیفٹ کارڈز مریضوں کو ان کے نگہداشت صحت کے پیشہ ور فرد کے ذریعے فراہم کیے جاتے ہیں۔

انسولین ڈیلیوری ڈیوائسز کے لئے تعاون

- [FlexTouch® انجیکشن کے طریقہ استعمال کی ویڈیو \(انگریزی\)](#)
- [NovoPen® 4 انجیکشن کے طریقہ استعمال کی ویڈیو \(انگریزی\)](#)
- [NovoPen® Echo انجیکشن کے طریقہ استعمال کی ویڈیو \(انگریزی\)](#)

مزید سوالات درپیش ہیں؟

نووو نارڈسک ریسپانس پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، نووو نارڈسک کسٹمر کیئر سے 1-800-465-4334 پر رابطہ کریں۔



نووو نارڈسک

ریسپانس پروگرام

پروڈکٹ میں شمولیتیں

®Tresiba® U-100 FlexTouch - 2467879
®Tresiba® U-200 FlexTouch - 2467887

®Tresiba

®NovoRapid® FlexTouch - 2377209
®NovoRapid® Penfill - 2244353
®NovoRapid® وائل - 2245397

®NovoRapid

®Levemir® FlexTouch - 2412829
®Levemir® Penfill - 2271842

®Levemir

®NovoMix® 30 Penfill - 2265435

®NovoMix

®Novolin® ge 30/70 Penfill - 2025248
Novolin® ge 30/70 - 2024217

Novolin® ge 30/70

®Novolin® ge NPH Penfill - 2024268
Novolin® ge NPH - 2024225

Novolin® ge NPH

®Novolin® ge ٹورنٹو Penfill - 2024284
®Novolin® ge ٹورنٹو - 2024233

Novolin® ge ٹورنٹو

NovoFine® 32G ٹپ ای ٹی ڈبلیو x 6 ایم ایم

سوئیاں

®NOVOPEN دستیابی

®NovoPen® 4 ڈیوائسز فارمیسی میں مریضوں کے لیے بغیر کسی لاگت کے دستیاب ہیں۔

®NovoPen® Echo درخواست کرنے پر، نگہداشت صحت کے پیشہ ور فرد کے دفتر میں یا ذیابیطس کے مقامی تعلیمی سنٹر پر دستیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، فارماسٹس نووو نارڈسک کسٹمر کیئر سے اس نمبر پر رابطہ کر کے محدود مقدار میں NovoPen® Echo ڈیوائسز کی درخواست کر سکتے ہیں: 1-800-465-4334۔

اس پروگرام میں شامل پروڈکٹس نووو نارڈسک کینیڈا انکارپوریٹڈ کی کلی صوابدید پر ہیں اور پیشگی نوٹس کے بغیر تبدیل ہو سکتے ہیں۔



نووو نارڈسک

ریسپانس پروگرام

اکثر پوچھے گئے سوالات

- ← کیا بینیفٹ کارڈ کو نووو نارڈسک کی ایک سے زائد دوا کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟
ہاں! نووو نارڈسک ریسپانس پروگرام کا بینیفٹ کارڈ واحد محیط تھراپی کے لیے یا نووو نارڈسک کی احاطہ شدہ انسولینز کے کسی بھی مرکب کے لیے ریڈیم کرایا جا سکتا ہے۔
- ← کیا نووو نارڈسک ریسپانس پروگرام کا بینیفٹ کارڈ ایک سے زائد بار استعمال کیا جا سکتا ہے؟
ہاں! نووو نارڈسک ریسپانس پروگرام کا ایک ہی بینیفٹ کارڈ 120 دنوں تک انسولین ری فلز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نیز نووو نارڈسک ریسپانس پروگرام فی بینیفٹ کارڈ ریڈیمپشن 1 ڈبہ سوئیاں (زیادہ سے زیادہ 4 ڈبے تک) فراہم کرتا ہے۔
- ← کیا نووو نارڈسک ریسپانس پروگرام کے بینیفٹ کارڈ کی اختتامی مدت ہے؟
نووو نارڈسک ریسپانس پروگرام کینیڈا میں نووارد افراد کو عارضی راحت فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ پروگرام کا بینیفٹ کارڈ 120 دنوں تک نووو نارڈسک کی چنیدہ انسولینز اور سوئیوں تک رسائی یقینی بناتا ہے۔ ان 120 دنوں میں، پروگرام کے شرکاء کو نجی / تکملاتی دوا کا بیمہ خریدنے یا متعدد صوبائی یا خطہ جاتی عوامی دوا کے پروگراموں کے لیے درخواست دینے کی ترغیب دی جاتی ہے۔
اگر نووو نارڈسک ریسپانس پروگرام فعال ہونے کے دن سے 120 دنوں کے اندر نجی / تکملاتی یا عوامی دوا کا بیمہ حاصل کر لیا جاتا ہے تو، نووو نارڈسک ریسپانس پروگرام کے فائدے اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔
- ← کیا شامل شدہ نووو نارڈسک انسولین کے لیے کوئی لاگت یا فیس ہے؟
نہیں۔ نووو نارڈسک ریسپانس پروگرام نووو نارڈسک کی بنائی گئی دوا اور سوئیوں کی لاگت کا نیز صنعتی معیار کے مارک اپ اور تقسیم کی فیس کا احاطہ کرتا ہے۔
- ← کیا نووو نارڈسک ریسپانس پروگرام میں سوئیاں شامل ہیں؟
چنیدہ سوئیاں اس پروگرام میں شامل ہیں۔ نووو نارڈسک ریسپانس پروگرام فی بینیفٹ کارڈ ریڈیمپشن 1 ڈبہ سوئیاں (زیادہ سے زیادہ 4 ڈبے تک) فراہم کرتا ہے۔
- ← میں متعدد صوبائی و خطہ جاتی عوامی دوا کے بنیفٹ پروگراموں کے بارے میں مزید معلومات کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟
مزید معلومات کے لیے حکومت کینیڈا کی ویب سائٹ پر موجود صوبائی اور خطہ جاتی عوامی دوا کے پروگرامز کا صفحہ ملاحظہ کریں۔